



## سوال

(204) 'ادراج' سے مراد

## جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

حدیث میں "ادراج" سے کیا مراد ہے؟ (فتاویٰ المدینہ: 69)

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

اور اجواب کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث کی عبارت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے ساتھ کچھ اور عبارت اس طرح سے مل جائے کہ پتہ نہ چلے کہ یہ صحابی کے الفاظ ہیں یا حدیث ہے۔ اس کی مثال "بخاری و مسلم" میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مشہور حدیث ہے۔

"إِنَّ أُمَّتِي يَذْعُونَ لِيَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًا مُّجَلِّينَ مِنْ سَمَارِ الْوُضُوءِ، فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ"

یہ والی عبارت مدرج ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے حدیث نہیں ہے۔

هذا ما عندي والله أعلم بالصواب

## فتاویٰ البانیہ

اصول حدیث علل حدیث اور اسماء رجال کا بیان صفحہ: 281

محدث فتویٰ